



رسول اللہ ﷺ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں فرمایا: وہ میرے لیے حلال نہیں ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے اور وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہیں

رسول اللہ ﷺ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں فرمایا: وہ میرے لیے حلال نہیں ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے اور وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہیں
[صحیح] [متفق علیہ]

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے یہ چاہا کہ آپ ﷺ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں جو ان دونوں کے چچا تھے نبی ﷺ نے انہیں بتایا کہ وہ ان کے لیے حلال نہیں ہیں کیونکہ وہ آپ کے رضاعی بھائی کی بیٹی ہیں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ نے ثویبہ کا دودھ پیا تھا جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھیں چنانچہ اس طرح سے آپ کے رضاعی بھائی اور ان کی بیٹی کے چچا ہوتے ہیں اور (قاعدہ یہ ہے کہ) رضاعت کی وجہ سے بھی وہ تمام رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6162>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

